

**Care and Cleaning**

Let water run through the mixer tap before using it for the first time. Screw off the aerator and water through it for about 5 minutes. Then screw it back on again.

For daily cleaning of your mixer tap, use a soft cloth dampened with water and a mild washing up detergent or soap, if necessary. Never use scouring powder, steel wool or a detergent that is calcium-dissolving, sour or contains alcohol or an abrasive. Rinse with water and dry/polish with a clean dry cloth.

To remove calcium deposits, use ordinary white vinegar diluted in water and rinse with plain water.

We recommend removing the aerator on the mixer tap and cleaning it now and then. If the aerator has a build-up of calcium, wash it with vinegar solution.

We recommend to clean any filters on the tap by rinsing with clean water once a year.

**Caution!**

The water temperature when using the sensor is controlled by the position of the handle. Be careful if you have recently used hot water, for example when washing dishes, since hot water may remain in the mixer tap, even if the handle is in the cold water position. Children should only use the mixer tap in the company of an adult.



Design and Quality  
IKEA of Sweden

**Reinigung und Pflege**

Die Mischbatterie vor der ersten Benutzung abspülen. Den Strahlregler abschrauben und 5 Min. lang Wasser durchlaufen lassen. Danach wieder aufschrauben.

Für die tägliche Reinigung der Mischbatterie ist nur ein weiches feuchtes Tuch evtl. mit einem milden Reinigungsmittel oder Seifenlösung nötig. Keine Scheuermittel, Stahlwolle oder Reinigungsmittel benutzen, die Kalklöser, Säuren, Alkohol oder Schleifmittel enthalten. Nach dem Abwaschen mit Wasser abspülen und mit einem trockenen sauberen Tuch trocknen/polieren.

Zur Entfernung von Kalkablagerungen verwenden Haushaltssessig benutzen und mit Wasser nachspülen.

Wir empfehlen, den Strahlregler regelmäßig abzunehmen und zu reinigen. Hat sich Kalk angesetzt, lässt es sich in einer Essiglösung spülen.

Wir empfehlen, alle Filter der Mischbatterie einmal jährlich zum Reinigen mit sauberem Wasser durchzuspülen.

**Bitte beachten!**

In der Sensorsetzung wird die Wassertemperatur durch die Lage des Griffes bestimmt. Bitte Vorsicht, wenn kürzlich Heißwasser - z. B. beim Geschirrspülen - benutzt wurde. Verbliebenes heißes Wasser kann noch in der Leitung Leitung sein, auch wenn der Hahn auf Kaltwasser eingestellt ist. Kinder sollten den Kran nur unter Aufsicht hantieren.

## SVENSKA

**Rengöring och skötsel**

Spola ren bländaren innan den används första gången. Skruva loss strålsamlaren och låt vattnet rinna igenom ca 5 minuter. Skruva därefter på den igen.

Käyttää hanan päävitäiseen puhdistamiseen vedellä kostuttettavaa pehmää liinaa. Tarvittaessa voit käyttää mietoa puhdistusainetta. Älä käytä hankavia ainesosia tai alkoholia sisältävää tai happamia puhdistusaineita, teräsvillaa tai ainettaa, joka liuottaa kalkkia. Huuhtele hanalupuksia vedellä ja kuivaa/kiirolla puhtaalla ja kuivalla liinalla.

För daglig rengöring av bländaren behövs endast en mjuk trasa fuktad i vatten och ev. en mild rengöringsmedel eller tvättolösning. Använd aldrig skrumedel, stålull eller rengöringsmedel som är kalklösande, sura, innehåller alkohol eller sliphemedel. Skölj därefter med vatten och torka/polera med en torr och ren trasa.

För att avlägsna kalkfläckar, använd utspädd hushållssåpa och skölj med vatten.

Vi rekommenderar att bländarens strålsamlare skruvas loss emellanåt för att göra den ren. Om strålsamlaren är förkald kan den tvättas i en åttiklösning.

Vi rekommenderar att bländarens filter rengörs årligen genom att sköljas med rent vatten.

**Obs!**

Vattentemperaturen i sensorläget styrs av handtagets position. Var försiktig om du nyligen använt het vatten, exempelvis till diskning, eftersom het vatten kan finnas kvar i ledningen, även om handaget är inställt på kallvatten. Barn ska endast använda kranen under uppsikt.

**Varoitus!**

Kahvan asento kontrolloi veden lämpötilaan,

kun sensori on käytössä. Ole varovainen,

mikäli olet lähiakoima käyttämästä kuumaa vettä esimerkiksi astioihin pesuun, sillä

kuuma vettä voi voinut jäädä hanana,

vaikka kahva olisikin kylmän veden

asennossa. Lasten tulee käyttää hanana vain

aikuisen valvonnanassa.

## ESTI

**Hooldus ja puhamustamine**

Laskke veel läbi kraani joosta enne, kui seda esmakordset kasutate. Keerake ära aeraator ja laskke veel joosta umbes 5 minutit. Seejärel pange aeraator tagasi.

Selleks, et igapäevasest kraani puhastada, kasutage vajadusel pehmet niisket lappi ja õrnatoomilist pesuvahendit või seepi. Ärge kunagi kasutage kürümispulbit, terakasnäa või kultsumiit lahustavat, alkoholi sisalduvaid või abrasiivaineid sisaldatavat pesuvahendit. Loputage veega ja kuivatage/poleerige puhta ja kuiva lapiga.

Kaltsiumi jäädikide eemaldamiseks kasutage tavaliit veega lajhendatud valget äädikat ja loputage veega.

Soovitame aeg-ajalt aeraatori eemaldada ja seda puhastada. Kui aeraatoriisse on kogunenud kaltsium, peske seda äädikalahusega.

Soovitame kord aastas puhastada kõik filtriid veega.

**Ettevaatust!**

Sensor kasutades sõltub vee temperatuurusta korjutavast sensorist, mis on paigaldatud kraani asendist. Olge ettevaatlik, kui olete hiljuti kasutanud kuuma vett, näiteks noude pesemiseks, kuna kuum vesi võib jäädä torusse ka juhul, kui kraan on külma vee juurde kerutud. Lapsed peaksid kraani kasutama vaid täiskasvanu järelvalvel.

## LATVIEŠU

**Kopšana un tīrišana**

Pirms ūdens maišītāja pirmās lietošanas patecīnet pa to ūdeni. Noskrūvējiet aerautoru un apņemāt 5 minūtes patecīnet ūdeni. Pēc tam uzskrūvējiet to atpakaļ.

Ūdens maišītāja ikdienu tīrišanai izmantojiet mīkstu, mitri lupatu un vajadzības gadījumā maigā trauku mazgāšanas līdzekli vai zipes. Nekādā gadījumā nelietojiet tīrišanas pulveru, metāla sūklī vai mazgāšanas līdzekli, kas šķidina kalku, satur skābi vai alkoholu, vai abrazīvu tīrišanas līdzekli. Skalojiet ar ūdeni un nosusiniet/nospodriniet ar tīru, sausu lupatu.

Lai atrīvotu no kalka nogulsnēm, tīriet ar ūdeni atšķaidītu etikējēni un pēc tam noskalojiet ar tīru ūdeni.

Ūdens maišītāja aerautori ieteicams laiku pa laikam izņemt un iztīrt. Ja uz aerautora ir kalka nogulsnes, mazgājiet to ar etikējēni.

Soovitame kord aastas puhastada kõik filtriid veega.

**Uzmanību!**

Lietojot sensoru, ūdens temperatūru regulē ar rokturi. Uzmanīties, ja iepriekš pa krānu tečēja karsts ūdens, piemēram, mazgājot traukus, jo ūdens maišītāja var būt palicis karstais ūdens arī tad, ja rokturis ir noregulēts uz akusto ūdeni. Bērniem rīkoties ar ūdens maišītāju ieteicams tikai pieaugušo uzraudzību.

## LIETUVIŲ

**Priežiūra ir valymas**

Prieš naudodami pirmą kartą, leiskite vandenį pras maišytuvu. Nusukite filtrą (aerautori) ir leiskite vandeniu bėgti apie 5 minutes. Tada vėl prisukite filtrą (aerautori).

Kasdien virtuvinį vandens maišytuvą valykite minkštā drēgna šluoste, naudodami švelnų plovliką ar mulio tirpalą, jei reikia. Nenaudokite šveičiamų mitilių, plieninių kempinielių, kalcijų nuosėdų tirpdančių valiklių ar valiklių, kurių sudėtyje yra alkoholio, šveičiamų dalelių. Perplaukite vandeniu ir sausai nušluostykite sausa, švaria šluoste.

Kalkui nuosėdai galima valyti acto ir vandens tirpalu, po to praskalauti dideliu kiekui vandens.

Rekomenduojame kartais išimti filtrą (aerautori) ir išvalyti. Jei filtras (aerautorius) užkalkėjo, išplaukite jį acto tirpalu.

Vandens maišytuvų filtrus rekomenduojame bent kartą per metus išplauti švariu vandeniu.

**Perspējimas!**

Veikiant jutikliui, vandens temperatūra priklauso nuo rankenėlės padėties. Būkite atsargūs, jei nesenai naudojote karštą vandenį, pavysdžiu, plovėte juo indus: karštus vandenis galėjo likti maišytuve, nors rankenėlė dabar yra šalto vandens padėtyje. Vaikai turėtų naudoti tokius vandenis maišytuvu tiki suaugusiesiems prižiūrint.

## PORTUGUES

**Manutenção e limpeza**

Deixe a água correr pela torneira misturadora antes de a utilizar pela primeira vez. Retire o ventilador, passe-o por água durante cerca de 5 minutos e volte a colocá-lo.

Para a limpeza diária da sua torneira, utilize um pano humedecido em água e um detergente suave, se necessário. Nunca deve usar produtos de limpeza em pó, palha-de-aço ou detergentes que contenham dissolventes, ácidos, álcool ou abrasivos.

Para eliminar os depósitos de calcário utilize vinagre branco diluído em água e enxague com água limpa.

Recomendamos que retire e limpe periodicamente o ventilador da torneira. Se o ventilador apresentar depósitos de calcário basta lavá-lo numa solução de vinagre.

Recomendamos que limpe os filtros da torneira uma vez por ano, enxaguando-os com água limpa.

**Atenção!**

Ao usar o sensor, a temperatura da água é controlada pela posição do manipulo. Tenha cuidado se tiver usado recentemente água quente, por exemplo, para lavar a loiça, uma vez que a torneira misturadora pode conter água quente, mesmo que o manipulo se encontre na posição de água fria. As crianças só devem usar a torneira misturadora sob supervisão de um adulto.

## ROMÂNA

**Curățare și întreținere**

Lasă să curgă apă prin baterie înainte de a folosi prima oară. Desfă aerautorul și lasă apă să treacă prin el timp de 5 minute. Apoi prinde-l la loc.

Pentru curățare zilnică, folosește o cărpă moale umedă și un detergent bland sau săpun, dacă este necesar. Nu folosi pudră de curățare, cărpă aspră sau detergenti care au în compozиție alcool sau substante abrazive. Clătește cu apă și șterge cu o cărpă uscată.

Pentru a elimina depunerile de calcar, folosește oțet diluat cu apă.

Recomandăm să scoți aerautorul și să îl cureți regulat. Dacă aerautorul are depunerile de calcar, spați cu o soluție cu apă.

Recomandăm să curățe filtrele cu apă curată o dată pe an.

**Atenție!**

Temperatura apelor atunci când folosești senzorul este controlată de poziția mânerului. Ai grijă dacă ai folosit recent apă fierbință, pentru că rămâne în interiorul bateriei, chiar dacă mânerul este în poziția pentru apă rece. Este recomandat ca cei mici să nu folosească bateria decât sub supravegherea unei adulți.

## SLOVENSKY

**Starostlivosť a čistenie**

Pred prvým použitím prepláchnite zmiestiacu batériu vodou. Odskrúvajte prevzdušňovač a opakujte ich pod tečúcou vodou približne 5 minút. Potom ho priskrúvajte späť na miesto.

Batériu čistite navlhčenou handičkou s trochou mydla alebo jemného čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte čistiace prípravky, drôtenky, žíveracie prostriedky ani čistidlá obsahujúce alkohol, abrazívne látky alebo látky rozpušťajúce vŕapník. Opláchnite vodou a leštie suchou handičkou.

Na odstránenie vodného kameňa použite roztoky s bežným kuchynským octom a opakujte vodou.

Odporúčame pravidelne čistiť prevzdušňovač. Ak sa zanesie vodný kameňom, namočte ho do roztoku s octom. Odporúčame vyčistiť filtre na batérii pod tečúcou vodou raz ročne.

**Pozor!**

Ak používate senzor, teplotu vody ovládate polohou rúčky. Ak ste predtým použili horúcu vodu, napríklad na umývanie riadu, budete opatrní, pretože voda môže ostať v kohútiku, aj keď je rúčka v polohе, z ktorej by mala tieč studená voda. Deti môžu batériu používať iba pod dohľadom dospejšej osoby.

**Грижа и почистване**  
Оставете малко вода да се изтече през кухненската смесителна батерия, преди да я използвате за първи път. Отвртете аератора и пуснете водата за около 5 минути. След това го поставете отново.

За ежедневно почистване на вашата кухненска смесителна батерия използвайте мека кърпа, навлажнена с вода и мек препарат за съдове или сапун, ако е необходимо. Никога не използвайте лъскаци препарати, телена гъба или препарат, който разтваря калций, има киселинна основа или съдържа алкохол или абразивни частици. Изплакнете с вода и подсушете/изльскайт с чиста кърпа.

За да премахнете утечния калций, използвайте обикновен бил оцет, разтворен във вода, след което изплакнете.

Препоръчваме ви от време-навреме да свалите аератора и да го почиствате. Ако по него се събър калций, измийте с очетен разтвор.

Препоръчване за почистване на смесителната батерия, като изплакнете с чиста вода веднък годишно.

**Внимание!**  
Когато се използва сензорен смесител, температурата на водата се регулира от позицията на дръжката. Внимавайте, ако скоро се използвали гореща вода, например за мене на прибори, тъй като в смесителя може да остане гореща вода, дори ако дръжката е в позиция за студена вода. Децата трябва да използват смесителя само в присъствието на възрастен.

## TÜRKÇE

**Bakım ve temizlik**  
İlk kullanmadan önce bataryadan suyun bir süre akması gerekmektedir. Havalandırıcı (aerator) çıkışınız ve suyun yaklaşık 5 dakika akmasını sağlayınız ve daha sonra geri takınız.

Bataryanızın günlük temizliği için ise suyu isıtılmış nemli bir bez ve gerekirse yumuşak bir bulaşık deterjanı ya da sabun kullanabilirsiniz. Ovucu toz, metal tel, kireç söküğü, asícý ya da aşındırıcı maddeler içeren temizlik ürünlerini kesinlikle kullanmayın. Su ile duruluyiniz ve kuru bir bez ile silerek parlatın.

Kireç tortularını temizlemek için normal sıreyi sulandırarak temizleyiniz ve sadece su ile duruluyınız.

Bataryanızı temizlerken her zaman havalandırıcıyı çıkartmanızı tavsiye ederiz. Eğer havalandırıcı kireçlendiliyse sirkeli solusyon ile yıkayınız.

Yilda bir kez temiz su ile durulama yaparak batarya filtrelerini temizlemenizi öneririz.

**Dikkat!**  
Sensör kullanırken su sıcaklığı kolun konumuna göre kontrol edilir. En son sıcak su kullandısanız, örneğin bulaşık yıkarken, dikkatli olunuz çünkü kol soğuk su pozisyonunda olsa bile batarya muslukunda sıcak su kalabilir. Çocuklar bataryayı yalnızca bir yetişkin gözetiminde kullanmalıdır.

**عربى**  
**العناية والتنظيف**  
دعي الماء يتدفق عبر الحنفية الخلاط قبل استخدامها لأول مرة. قومي بحل الفلتر/المهوية ودعى الماء يتدفق عبرها حوالي 5 دقائق. ثم أعيدي بخطها مرة أخرى.

لعمليات التنظيف البوئية للخلاط، ابسط ماءً يتدفق في الماء مع منتفع او مابون لطفى، اذ ان صورياً، لا تستخدمنى ابداً بودرة التلمع، مسلاك او أي مطحفات مائية على كشكول او مواد حممية او مواد تجاري على كشكول او مواد تسبب العدوى.

اشطفى بالماء ثم استسخنى ولمعى بقطعة قماش جافة. لإزالة الكلس المراكمة، استخدمي الخل الأبيض العادي بعد مزجج مع الماء ثم اشطفى بالماء العادي.

تنمحك بترع الفلتر/المهوية من الحنفية الخلاط وتنطفيها من قبض آخر، اذا تراكت الماء الكلسية على الفلتر/المهوية، اغسلتها في محلول الخل.

تنمحك بتنظيف اي فلتر على الحنفية بشطفه بالماء النظيف مرة واحدة في السنة.

**تنبيه!**  
يتم التحكم في حرارة الماء عند استخدام الحساسات بعد مرحلة وقوعه للبيتل. يجب توجيه الماء في حالة استخدامك الماء الساخن مؤخراً على سبيل المثال عند غسل الطعام، قد يبقى المياه الساخنة مخزنة في الحنفية حتى لو كانت البيتل على وضعية الماء البارد. يجب على الأطفال استخدام الحنفية فقط بمرافقة شخص بالغ.

## Фронтова и кафадарисма

Ако јесте то веќе го прееши месец апшто тој макит кујната, прито тој храносимонопојштете го првот форд. Зефиште тој аератор и дадете воде стече во текнение 5 минути. Затим го поново намјестите.

За свакодневно чиšћење кухинске мјешалице за хладну и топлу воду користите, по потреби, мекану влазну крпу и благи детерџент за прање посуда или сапун. Никад не користите прашак за чиšћење, челичну џицу или средство за растапање каменка која садрже кисelinu, алкохол или абразив. Испрати водом и осушити или исполаришти чистом, сухом крпом.

За одстранити наслаге калција, користи обични алкохолни очистачи за разводнjenие у води и испрати чистом водом.

Preporučamo da se skine ventil s kuhinjske mješalice za hladnu i toplu vodu i povremeno se očistiti. Ako na ventili ima naslagu kalcija, oprati ga razvodnjenim alkoholnim octom.

Preporučamo čišćenje filtera ispiranjem čistom vodom jednom godišnje.

## Oprez!

Temperatura vode prilikom korištenja senzora kontrolirana je pozicijom ručke. Nakon nedavnog korištenja vrueće vode, potreban je oprez prilikom npr. pranja posude zato što vrueća voda ostane u mješalici za vodu, makar je ručka u položaju za hladnu vodu. Djeca moraju koristiti mješalicu za vodu samo u društvu odrasle osobe.

**Прошох!**  
Η θερμοκρασία του νερού κατά τη χρήση του αισθητήρα ελέγχεται από τη θέση της λαβής. Να είστε προσεκτικοί αν έχετε χρησιμοποιήσει πρόσφατα ζεστό νερό, π.χ. στον πλένετε τα πιάτα, καθώς μπορεί να παραμείνει ζεστό νερό στον μεικτή, ακόμα και αν η λαβή βρίσκεται στη θέση του κρύου νερού. Τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν τον μεικτή μόνο παρουσία ενός ενήλικης.

## 繁中

### 保养与清洁

第一次使用之前, 让水从厨房混合型水龙头中流出一些, 去掉过滤器, 让水从水龙头中流出大约5分钟, 然后将过滤器重新装上。

关于厨房混合型水龙头的日常清洁, 使用软布, 在水和温和的洗涤剂或皂液(如果需要)中沾湿。严禁使用去污粉、钢丝球或钙溶性、酸性或含有酒精或磨擦剂的洗涤剂。用清水冲洗, 用洁净的干布擦干/擦亮。

去除沉积的钙质, 使用普通的白醋, 用水稀释并用自来水冲洗。

建议移除厨房水龙头上的加气装置, 偶尔清理。加气装置残留钙质时, 可用醋液清洗。

建议用清水冲洗水龙头的过滤网, 一年一次。

我们建议, 不时地将厨房混合型水龙头上的过滤器取下并清洁, 如果过滤器上有钙质沉淀, 将过滤器放在醋溶液中清洗。

我们建议水龙头内的任何过滤器每年都用清水冲洗一次。

### 注意!

启用感应器时, 转动把手位置, 可以控制水温。注意, 如果你不久前才使用过热水, 比如洗碗时使用过, 那么即使把手处于冷水位置, 混合型水龙头里可能仍留有热水。儿童务必在成人陪同下使用此混合型水龙头。

用手位置控制水温, 请记住, 如果不久前用热水清洗碗盆, 即使把手移至冷水位置, 水龙头可能還留下一些热水。兒童使用時須有大人在旁邊看顧。

**警告!**  
用把手位置控制水温, 请记住, 如果不久前用热水清洗碗盆, 即使把手移至冷水位置, 水龙头可能還留下一些热水。兒童使用時須有大人在旁邊看顧。

**注意事项!**  
启用感应器时, 转动把手位置, 可以控制水温。注意, 如果你不久前才使用过热水, 比如洗碗时使用过, 那么即使把手处于冷水位置, 混合型水龙头里可能仍留有热水。儿童务必在成人陪同下使用此混合型水龙头。

建议移除厨房水龙头上的加气装置, 偶尔清理。加气装置残留钙质时, 可用醋液清洗。

建议用清水冲洗水龙头的过滤网, 一年一次。

我们建议水龙头内的任何过滤器每年都用清水冲洗一次。

## 한국어

### 관리와 세척

수도꼭지를 처음 사용하기 전에 물이 충분히 흐르게 해주세요. 공기 주입 장치를 뺀 상태에서 5분간 물이 흐르게 한 다음 다시 필터를 끼워주세요.

평상시에는 물과 순한 세제를 묻힌 부드러운 천으로 청소하면 됩니다. 광택분, 철수세미, 또는 칼슘을 용해하는 성분이나 화학제, 알코올 또는 연마제를 포함하는 세제는 절대 사용하지 마세요. 물로 행군 후, 깨끗한 마른 천으로 물기를 뺀 뒤 광택을 내세요.

칼슘침착물을 제거하려면, 물에 희석시킨 식초를 사용해서 닦고 물로 헹구세요.

주방 수도꼭지의 공기 주입 장치는 정기적으로 분리해서 청소하는 것을 권장합니다. 칼슘이 침착되면 식초 용액으로 씻어주세요.

수도꼭지의 거름망은 1년에 한 번씩 깨끗한 물로 세척하는 것을 권장합니다.

### 주의

센서를 사용할 때 물 온도는 손잡이 위치로 조절할 수 있습니다. 뜨거운 물을 사용한 직후에는 손잡이가 냉수쪽을 향하고 있어도 뜨거운 물부터 나올 수 있으니 주의해주세요. 아이들은 보호자에게 지도하여 사용해야 합니다.

**주의!**  
센サー 사용時の水温は、ハンドルの位置で調節します。直前に皿洗いなどで温水を使用していた場合は、ハンドルが冷水の位置でも混合栓内に温水が残っていることがありますので、ご注意ください。お子さまが混合栓を使用する際は、必ず大人が付き添ってください。

カルシウムの除去は、水と酢酸を混ぜて落としてください。

カルシウムの除去は、水と酢酸を混ぜて落としてください。